

Lesson 10: Al-An'aam (Ayaat 151 - 165): Day 34

سُورَةُ الْأَنْعَامِ کی تفسیر

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ							
قُلْ	تَعَالَوْا	أَتْلُ	مَا	حَرَّمَ	رَبُّكُمْ	عَلَيْكُمْ	أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ
کہہ	آؤ	پڑھوں میں	وہ جو کہ	حرام کیا	رب تمہارے نے	اور تمہارے	یہ کہ نہ شریک لاؤ ساتھ اس کے
(۱۵۱) کہہ کہ (لوگو) آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ (ان کی نسبت اس نے اس طرح							
شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقُ							
شَيْئًا	وَ	بِالْوَالِدَيْنِ	إِحْسَانًا	وَ	لَا	تَقْتُلُوا	أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقُ
کچھ	اور	ساتھ ماں باپ کے	احسان کرنا	اور	مت	مار ڈالو	اولاد اپنی کو سے افلاس کے ڈر
ارشاد فرمایا ہے) کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے (بدسلوکی نہ کرنا بلکہ) سلوک کرتے رہنا اور ناداری (کے اندیشے) سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔							
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا							
نَحْنُ	نَرْزُقُكُمْ	وَإِيَّاهُمْ	وَ	لَا	تَقْرَبُوا	الْفَوَاحِشَ	مَا ظَهَرَ مِنْهَا
ہم	روزی دیتے ہیں تم کو	اور ان کو	اور	مت	قریب جاؤ	بے حیائیوں کے	جو کچھ ظاہر ہے اس میں سے
کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ							
وَمَا بَاطِنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ذَلِكُمْ							
وَ	مَا	بَاطِنَ	وَ	لَا	تَقْتُلُوا	النَّفْسَ	الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ذَلِكُمْ
اور	جو کچھ	چھپا ہے	اور	مت	مار ڈالو	اس جی کو	کہ جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر ساتھ حق کے یہ بات
ان کے پاس نہ پھٹکنا۔ اور کسی جان (والے) کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر (یعنی جس کا شریعت حکم دے)۔ ان							
وَصُكُّم بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥٢﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي							
وَصُكُّم	بِهٖ	لَعَلَّكُمْ	تَعْقِلُونَ	وَ	لَا	تَقْرَبُوا	مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
نصیحت کرتا ہے تم کو	ساتھ اس کے	تاکہ تم	سمجھو	اور	مت	نزدیک جاؤ	مال یتیم کے مگر ساتھ اس طرح کہ
باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو ﴿۱۵۲﴾ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے							

هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ							
ہی	اَحْسَنُ	حَتَّى	يَبْلُغَ	أَشُدَّهُ	و	أَوْفُوا	الْكَيْلَ
وہ	بہت اچھی ہے	یہاں تک کہ	پہنچے	جوانی اپنی کو	اور	پورا تولو	ماپ کو
کہ بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری							
بِالْقِسْطِ ۚ لَّا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ							
بِالْقِسْطِ	لَا	تُكَلِّفُ	نَفْسًا	إِلَّا	وُسْعَهَا	وَ	إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
ساتھ انصاف کے	نہیں	تکلیف دیتے ہم	کسی جی کو	مگر	موافقت اس کی کے	اور	جب بات کہو
ساتھ انصاف کے نہیں کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور جب (کسی کی نسبت) کوئی بات کہو							
ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ							
ذَا	قُرْبَىٰ	وَبِعَهْدِ	اللَّهِ	أَوْفُوا	ذَلِكُمْ	وَصَّكُم	بِهِ
صاحب	قرابت	اور ساتھ عہد	اللہ کے	وفا کرو	یہ بات	نصیحت کرتا ہے تم کو	ساتھ اسکے
تو انصاف سے کہو گو وہ (تمہارا) رشتہ دار ہی ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے							
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا							
تَذَكَّرُونَ	و	أَنَّ	هَذَا	صِرَاطٌ	مُسْتَقِيمٌ	فَاتَّبِعُوهُ	وَلَا تَتَّبِعُوا
نصیحت پکڑو	اور	یہ کہ	یہ	راہ میری	سیدھی ہے	پس پیروی کرو اس کی	اور مت پیروی کرو
تاکہ تم نصیحت قبول کرو ﴿١٥٦﴾ اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور اور رستوں پر نہ چلنا							
السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ							
السَّبِيلَ	فَتَفَرَّقَ	بَيْنَكُمْ	عَنْ	سَبِيلِهِ	ذَلِكُمْ	وَصَّكُم	بِهِ
اور راہوں کی	پس متفرق کر دیئے	تم کو	سے	راہ اس کی	یہ بات	نصیحت کرتا ہے تم کو	ساتھ اسکے
کہ (ان پر چل کر) اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ							
تَتَّقُونَ ﴿١٥٧﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ							
تَتَّقُونَ	ثُمَّ	آتَيْنَا	مُوسَى	الْكِتَابَ	تَمَامًا	عَلَى	الَّذِي أَحْسَنَ
بچو	پھر	دی تھی ہم نے	موسیٰ کو	کتاب	پورا کرنا نعت کا	اوپر	اس شخص کے کہ
تم پر ہیز گار بنو ﴿١٥٧﴾ (ہاں) پھر (سن لو کہ) ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکو کار ہیں نعمت پوری کر دیں							

وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ								
و	تَفْصِيلًا	لِّكُلِّ	شَيْءٍ	و	هُدًى	و	رَحْمَةً	لَّعَلَّهُمْ
اور	تفصیل کرنا	واسطے ہر	چیز کے	اور	ہدایت	اور	رحمت	تاکہ وہ
اور (اس میں) ہر چیز کا بیان (ہے) اور ہدایت (ہے) اور رحمت ہے تاکہ (ان کی امت کے) لوگ اپنے پروردگار کے دروبرو حاضر ہونے کا								
يَوْمِئِذٍ ۚ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ								
يَوْمِئِذٍ	وَهَذَا	كِتَابٌ	أَنْزَلْنَاهُ	مُبَارَكٌ	فَاتَّبِعُوهُ	و	اتَّقُوا	لَعَلَّكُمْ
ایمان لائیں	اور یہ	کتاب ہے	اتاری ہے اسکو ہم نے	برکت والی	پس پیروی کرو اس کی	اور	پرہیزگاری کرو	تاکہ تم
یقین کریں ﴿۱۵۴﴾ اور (اے کفر کرنے والو) یہ کتاب بھی ہمیں نے اتاری ہے برکت والی تو اس کی پیروی کرو اور (اللہ سے) ڈرو تاکہ تم پر								
تُرْحَمُونَ ۚ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ								
تُرْحَمُونَ	أَنْ	تَقُولُوا	إِنَّمَا	أُنْزِلَ	الْكِتَابُ	عَلَى	طَائِفَتَيْنِ	مِنْ
رحم کئے جاؤ	ایسا نہ ہو کہ	کہو تم	سوائے اسکے نہیں کہ	اتاری گئی تھی	کتاب	اوپر	دو جماعت کے	سے
مہربانی کی جائے ﴿۱۵۵﴾ (اور اس لیے اتاری ہے) کہ (تم یوں نہ) کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں								
قَبِلْنَا ۚ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ ۚ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ								
قَبِلْنَا	وَ	إِنْ	كُنَّا	عَنْ	دِرَاسَتِهِمْ	لَغَفِلِينَ	أَوْ	تَقُولُوا
پہلے ہم	اور	تحقیق	تھے ہم	سے	اس کے پڑھنے	البتہ غافل	یا	کہو تم
اُتری ہیں اور ہم اُن کے پڑھنے سے (معذور اور) بے خبر تھے ﴿۱۵۶﴾ یا (یہ نہ) کہو کہ اگر ہم پر بھی								
عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكِنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ								
عَلَيْنَا	الْكِتَابُ	لَكِنَّا	أَهْدَىٰ	مِنْهُمْ	فَقَدْ	جَاءَكُمْ	بَيِّنَةٌ	مِنْ رَبِّكُمْ
اوپر ہمارے	کتاب	البتہ ہوتے ہم	راہ پانے والے	اس سے	پس تحقیق	آئی ہے تمہارے پاس	دلیل	سے پروردگار تمہارے
کتاب نازل ہوئی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے۔ سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل								
وَهُدًى وَرَحْمَةً ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ								
وَهُدًى	و	رَحْمَةً	فَمَنْ	أَظْلَمُ	مِمَّنْ	كَذَبَ	بِآيَاتِ	اللَّهِ وَصَدَفَ
اور ہدایت	اور	مہربانی	پس کون ہے	بہت ظالم	اس شخص سے کہ	جھٹلائے	نشانوں	اللہ کی کو اور پھر ہے
اور ہدایت اور رحمت آگئی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان								

عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا						
عَنْهَا	سَنَجْزِي	الَّذِينَ	يَصْدِفُونَ	عَنْ	آيَاتِنَا	سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا
ان سے	البتہ جزا دیں گے ہم	ان لوگوں کو جو	پھر رہتے ہیں	سے	ہماری نشانیوں	برا
سے (لوگوں کو) پھیرے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے						
كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٤﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ						
كَانُوا	يَصْدِفُونَ	هَلْ	يَنْظُرُونَ	إِلَّا	أَنْ	تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ
تھے وہ	پھر رہتے	نہیں	انتظار کرتے	مگر	یکہ	آویں ان کے پاس
عذاب کی سزا دیں گے ﴿١٥٤﴾ یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں						
أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ						
أَوْ	يَأْتِي	رَبُّكَ	أَوْ	يَأْتِي	بَعْضُ	آيَاتِ رَبِّكَ
یا	آئے حکم	پروردگار آئے	یا	آویں	بعض	نشانیوں
یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں						
رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ						
رَبِّكَ	لَا	يَنْفَعُ	نَفْسًا	إِيْمَانُهَا	لَمْ	تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ
رب تمہارے کی	نہ	نفع دے گا	کسی جی کو	ایمان اس کا کہ	نہ	تھا
آجائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اُس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا یا اپنے ایمان (کی حالت) میں نیک عمل نہیں کیے ہوں						
فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ						
فِي	إِيْمَانِهَا	خَيْرًا	قُلِ	انْتَضِرُوا	إِنَّا	مُنْتَظِرُونَ
بچ	ایمان اپنے کے	بھلائی کو	کہہ	منتظر ہو	بیشک ہم بھی	منتظر ہیں
گے (تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا اے پیغمبر ان سے) کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں ﴿١٥٨﴾ جن لوگوں نے						
فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا أَمْرُهُمْ						
فَرَّقُوا	دِيْنَهُمْ	وَ	كَانُوا	شِيعًا	لَسْتُ	مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
نکڑے نکڑے کر دیا	دین اپنے کو	اور	ہو گئے	گروہ گروہ	نہیں تو	ان میں سے
نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرتے ہو گئے اُن سے تم کو کچھ کام نہیں۔ ان کا کام						

إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ

إِلَى	اللَّهُ	ثُمَّ	يُنَبِّئُهُم	بِمَا	كَانُوا	يَفْعَلُونَ	مَنْ	جَاءَ	بِالْحَسَنَةِ	فَلَهُ
طرف	اللہ کے ہے	پھر	خبر دے گا انکو	ساتھ اس جنہ کے	تھے	کرتے	جو کوئی	لاوے	بھلائی	پس واسطے اسکے ہے

اللہ کے حوالے پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو (سب) بتائے گا ﴿١٥٩﴾ جو کوئی (اللہ کے حضور) نیکی لے کر آئے گا اس کو

عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ

عَشْرُ	أَمْثَالِهَا	وَمَنْ	جَاءَ	بِالسَّيِّئَةِ	فَلَا	يُجْزَى	إِلَّا	مِثْلَهَا	وَهُمْ	
دس	برابر اس کے	اور	جو کوئی	لاوے	برائی	پس نہیں	بدلہ دیا جائے گا	مگر	مانند اس کے	اور وہ

وہی دس نیکیاں ملیں گی۔ اور جو برائی لائے گا اسے سزا وہی ہی ملے گی اور ان پر

لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ

لَا	يُظْلَمُونَ	قُلْ	إِنِّي	هَدَيْتُ	رَبِّي	إِلَى	صِرَاطٍ	مُسْتَقِيمٍ
نہیں	ظلم کیے جائیں گے	کہہ	بیشک مجھ کو	ہدایت کی	میرے رب نے	طرف	راہ	سیدھی کے

ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿١٦٠﴾ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھادیا ہے

دِينًا قَبِيلاً ۖ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ

دِينًا	قَبِيلاً	ۖ	إِبْرَاهِيمَ	حَنِيفًا	ۚ	وَمَا	كَانَ	مِنَ	الْمُشْرِكِينَ	قُلْ
دین	استوار		ابراہیم	حنیف کا		اور نہ	تھا وہ	سے	مشرکوں میں	کہہ

(یعنی دین صحیح) مذہب ابراہیم کا جو ایک (اللہ) ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے ﴿١٦١﴾ (یہ بھی) کہہ دو

إِنِّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

إِنِّ	صَلَاتِي	وَنُسُكِي	وَمَحْيَايَ	وَمَمَاتِي	لِلَّهِ	رَبِّ	الْعَالَمِينَ
بیشک	نماز میری	اور	قربانی میری	اور	زندگی میری	اور	موت میری

کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے ﴿١٦٢﴾

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغْيَرُ

لَا	شَرِيكَ	لَهُ	ۚ	وَبِذَلِكَ	أُمِرْتُ	وَأَنَا	أَوَّلُ	الْمُسْلِمِينَ	قُلْ	أَغْيَرُ
نہیں ہے	شریک	اس کا		ساتھ اسی کے	حکم کیا گیا ہوں	اور میں	اول	مسلمانوں کا ہوں	کہہ	کیا سوائے

جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرمانبردار ہوں ﴿١٦٣﴾ کہہ کیا میں اللہ

اللَّهُ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ

اللَّهُ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ
اللہ کے ڈھونڈوں میں پروردگار اور وہ پروردگار ہر چیز کا ہے اور نہیں کماتا کوئی جی

کے سوا اور پروردگار تلاش کروں اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اور جو کوئی (برا) کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی

إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ

إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ
مگر اوپر اپنے اور نہیں بوجھ اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا پھر ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر جانا

کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم (سب) کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ
پس خبر دے گا تم کو ساتھ اس چیز کے کہ تھے تم نبی اس کے اختلاف کرتے اور وہ جس نے کیا تم کو جائے نشین

جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا (۱۱۳) اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب

الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا

الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
زمین کا اور بلند کیا بعض تمہارے کو اوپر بعض کے درجے میں تاکہ آزمائے تم کو نبی اس چیز کے

بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اُس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری

اَتُكْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۚ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

اَتُكْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۚ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝
دیا ہے تم کو بیشک رب تیرا جلد عذاب کرنے والا ہے اور بیشک وہ البتہ بخشنے والا مہربان ہے

آزمائش کرے۔ بیشک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بیشک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے (۱۱۵)